

أَنْهَارُ فَيْضِ الْمُنَاجَاةِ الْقُطَيْبَةِ
١٥٧ ١٣١ ٨٩٠ ٢٥٧

١٤٣٥هـ

أُنَاجِيكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَرِيَّاتِ

أَوَّلُ مُنَاجَاةٍ

صَنَّفَهَا الدَّاعِي الْأَجَلُّ الْفَاطِمِي

سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا أَبُو طَاهِرٍ خُرَيْمَةَ قُطْبِ الدِّينِ ط

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

سَلْسِيْلُ فَيُوْضٍ مُنَا جَاةِ مُوسَى الْكَلِيْمِ
١٩٢ ٨٩٦ ١٠٠ ١١٦ ١٣١

١٤٣٥هـ

بِشَارَةِ اَوَّلِ مُنَا جَاةِ مَوْلَانَا خُرَيْمَتِ
٥٠٨ ٣٧ ١٠٠ ١٢٨ ٦٦٢

١٤٣٥هـ

جَوْهَرِ فَيُضِ سَيِّدِنَا قُطْبِ الدِّيْنِ
٢١٤ ٨٩٠ ١٢٥ ٢٠٦

١٤٣٥هـ

Published by the Office of the 53rd Dai al-Mutlaq His Holiness Syedna Khuzaima Qutbuddin TUS

**Saify Mahal,
A.G. Bell Road, Malabarhill, Mumbai 400 006**

**Darus Sakina
Pokhraine Rd. No. 1, Upvan Thane (W) 400 606**

Lailatul Qadar, 1435H

July 2014

© Fatemidawat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ "أُنَاجِيكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَرِّيَّاتِ" مُنَاجَاةَ مُوسَى دَاعِيًا فِي الْبَلِّيَّاتِ

اے پروردگار اے خلاق نارب، میں تارا نزدیک مناجاة کروں چھون، جیم موسی نبی یر
تارا نزدیک بلاؤانے محنة نا وقت ما مناجاة کړي نے دعاء کیدھی (مناجاة یعنی خدا نے عرض
کرے خدا نا نزدیک دعاء کرے)،

I call to you in prayer and munajaat, O Allah, lord of the worlds
The munajaat of Musa, praying to you in difficult times
(Munajaat means speaking privately with Allah, praying to Allah)

۲ مُنَاجَاةَ زَيْنِ الْعَابِدِينَ إِمَامِنَا لِإِبْتِقَاءِ دِينٍ فِي لَيَالٍ طَوِيلَاتٍ

میں تارا نزدیک مناجاة کروں چھون، جیم امام زین العابدین یر مناجاة کیدھی لمبی راتونا
اندر، ایم دعاء کرتا هوا کرتوا دین نے باقی راکھے حفاظة کرچے، (ایم بیان آیو کر امام زین
العابدین رات ما ایک هنر رکعة نماز پرھتا تھا، آپ جانتا تھا کربنوامیة فی سلطنة هنر لمہینہ تک مرھسے،
آپنی مناجاة نے دعاء سی محنة نا وقت ما بھی دعوة قائمہ مرھسے، امام الزمان باقی مرھسے)

The munajaat of our Imam Ali Zayn ul Abedeen

Praying in these long nights for the preservation of Deen

(Imam Zaynul Abedeen used to pray a thousand rak'ats at night. He knew that the rule of the Banu Umayya would last for a thousand months. But by his munajaat and doa, even in those times of difficulty, Allah's Dawat would remain, the Imam uz Zamaan would remain).

۳ مُنَاجَاةٌ دَاعٍ ذَاكِرٍ لَكَ شَاكِرٍ عَلَى النَّعْمَةِ الْعُظْمَى وَأَسْنَى الْعَطِيَّاتِ

میں تارا نزدیک مناجاة کروں چھوں ، تارو داعی چھوں جر تاربی ذکر کرے چھے شکر کرے
چھے ، نعمة عظمیٰ پر اعلى عطیة پر ، (۵۲ ماداعی سیدنا محمد برهان الدین رضی یر ۵۳ ماداعی
سیدنا خزیمة قطب الدین ط نے دعوة نور تبة ابویر نعمة نوشکر کرے چھے)

The munajaat of a Dai who offers remembrance and gratitude

For this greatest of favors and highest of gifts.

(The 52nd Dai Syedna Mohammed Burhanuddin RA bestowed the rutba of Da'wat to the 53rd Dai Syedna Khuzaima Qutbuddin TUS, and he offers shukur to Allah Ta'ala for this ne'mat.)

۴ مُنَاجَاةٌ عَبْدٍ تَائِبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ وَمِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَهُ وَالْخَطِيَّاتِ

میں تارا نزدیک مناجاة کروں چھوں ، تارو بندو چھوں جر گناھو پر توبہ کرے چھے ، ذنوب
اٹام انے خطیئات تھکی معافی مانگے چھے ،

The munajaat of a servant who repents

Of his sins and transgressions.

۵ يَا بَابِكَ عَبْدٌ يَا إِلَهِي نَادِمٌ وَمُسْتَغْفِرٌ مِنْ جُرْمِهِ وَالْجَرِيرَاتِ

تارا در پر آ بندہ کھرو چھے ، اے پروردگار ، انا گناھو پر ندم کرتا ہوا ، انا جرم انے
جریرات پر استغفار کرتا ہوا ،

Allah, I am a servant who has come to your door penitent

Asking forgiveness for his wrongs and misdeeds.

٦ وَلَيْلَةُ قَدْرِ لَيْلَةُ الْأُمِّ فَاطِمَةَ الَّتِي
أَظْهَرَتْ شَانَاتِ نُورٍ غَرِيبَاتِ

لیلة القدر ماہ فاطمہ نی رات ہے ، جہ فاطمہ واسطے عجب شانات نورانیہ ہے ،

Laylat ul Qadr is Ma Fatema's night
The one whose luminous miracles are magnificent

٧ وَلَيْلَةُ قَدْرِ دَعْوَةَ لِأَيِّمَّةِ
دُعَاتِهِمُ السَّاعَاتِ عِنْدَ التَّقِيَّاتِ

لیلة القدر ائمہ طاہرین نی دعوت ہے ، جہ وقت کہ امام کھف التقیہ ما مستور ہے ، دعوات
لیلة القدر نی گھریو ہے ، ساعات ہے ،

Laylat ul Qadr is the Imam's Dawat
During his Seclusion; his Dais are Laylat ul Qadr's holy hours.

٨ بَلِيَّةِ قَدْرِ قَدْ تَوَسَّلْتُ رَبَّنَا
بِإِخْلَاصِ نِيَّاتٍ بِأَعْلَى الْوَسِيْلَاتِ

لیلة القدر ما اے پروردگار میں اخلاص النیہ سی تار انزدیک اعلی وسیلاؤ لئی نے آیو
چھوڑ ،

In Laylat ul Qadr I come to you
With the loftiest of vasilas and sincerest of intentions

۹ بِمِمْ وَعَيْنٍ ثُمَّ فَأَاءِ عَظِيمَةَ
وَحَائِنِ أَهْلِ الْمَكْرَمَاتِ الرَّفِيعَاتِ

میم ، عین ، فاءانے حائین ، پنجن پاك نو وسیلہ لئی نے آیو چھون کر جر مکرمات
رفیعات بلند شان ناصاحبو چھے ،

I take the vasila of Mohammad, Ali, Fatema
Hasan and Husain—Mawali with exalted virtues

۱۰ كَذَا بَيْنِهِمْ سَادَةَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
وَطَيْبِهِمْ مَوْلَايَ مَوْلَى الْبَرِيَّاتِ

یرج مثل پنجن ناشہزاد او ائمة طاہرین نو وسیلہ لئی نے آیو چھون ، جر خلائق نا
سردارو چھے ، امام الزمان طیب نو وسیلہ لئی نے آیو چھون ، جر مارا مولی چھے
خلائق نا مولی چھے ،

Of the Imams in their progeny, chieftains among people
And of Tayyeb Imam, my Mawla, Mawla of all the worlds

۱۱ كَذَاكَ الدُّعَاةِ الْمُطْلَقِينَ جَمِيعِهِمْ
وَلَا يَتِيهِمْ لِلْخُلْدِ خَيْرٌ الذَّخِيرَاتِ

یرج مثل دعاة مطلقین نو وسیلہ لئی نے آیو چھون ، یر دعا تونی ولایة جنہ الخلد
واسطے بھلو ذخیرہ چھے ،

Of the Duaat Mutlaqeen, each and every one
Their *walayāt* my treasure for the hereafter

۱۲ بِشْمَسِهِمْ سَيْفِ الْهُدَى طَاهِرِ حَوَى
شُؤُنَ الدُّعَاةِ السَّالِفِينَ الْعَجِيبَاتِ

شمس الدعاء المطلقين سيدنا طاهر سيف الدين رض نووسيلة لئي نے آیو چھونے ، جر
مولی تمام دعاء سالفین نی شانات عجیبات نا جمع نا کرنا رچھے ،

Of Syedna Taher Saifuddin, sun among them
The virtues of all past Dais are gathered in him

۱۳ وَوَارِثِهِ بُرْهَانَ دِينِ مُحَمَّدٍ
فَكَمْ قَدْ حَوَى مِنْ مَفْخَرَاتِ عَلِيَّاتِ

آپنا وارث سیدنا محمد برهان الدین رض نووسيلة لئي نے آیو چھونے ، جر مولی مفخرات
عالیات نا حاصل نا کرنا رچھے ،

Of Syedna Mohammad Burhanuddin, his successor
Possessor of the most sublime of qualities

۱۴ وَقَدِّسَ إِلَهِي رُوحَ بُرْهَانَ دِينِكَ أَلَّ
ذِي حَازٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ حَظِيرَاتِ

اے پروردگار تو مولانا محمد برهان الدین رض ناروح مبارک نے تقدیس کر جے - مولی
نی قبر نے منور کر جے - جر مولی جنات عدن نا حظیرة ما پھنچی گیا چھے ،

Allah, sanctify Mawla Burhanuddin's soul
Ascended to the Garden of Eden

۱۵ اَزُورُ وِلِيِّ نِعْمَتِي ذَاكَ بِغَيْتِي
بِعَيْنِي أَمْشِي نَحْوَ رَوْضِ طَهْرَاتِ

ماری دلی امید چھے کہ میں مارا بے ولی النعمۃ سیدنا طاہر سیف الدین رضی انے سیدنا
محمد برہان الدین رضی نی زیارۃ کروں ، ماری آنکھو سی مروضۃ طاہرۃ نی طرف
چلونے ،

My dearest wish: to perform *ziyarat* of my two benefactors
Walking to Rauzat Tahera on my eyes

۱۶ بِحُرْمَتِهِمْ يَا رَبَّنَا اغْفِرْ ذُنُوبَنَا
وَأَعْطِ لَنَا مَنَّا عَطَايَا هَنِيَّاتِ

اے پروردگار آسگلا موالی طاہرین نی حرمتہ سی تو ہمارا گناہونے معاف کر جہ ،
ہماری امیدونے برائی اوجے ،

By their vasila, Allah, forgive us our sins
And grant us your godly blessings

۱۷ وَهَبْ قُرَّةَ الْعَيْنَيْنِ فِي وُلْدِي السَّرِيِّ
وَوَفِّقْهُمْ دَابًّا لِكَسْبِ الْفَضِيلَاتِ

مارا فرزند و ما ماری آنکھو تھندی کر جہ ، قرۃ عین عطاء کر جہ ، یرسگلانے تو
فضائل کسب کروانی توفیق آجے ،

Grant me *qurratul ayn* in my children
Give them *tawfeeq* always to earn virtues

۱۸ إِلَهِي وَاحْرُسْ دَعْوَةَ الْحَقِّ حَافِظاً لَهَا مِنْ مَكِيدَاتِ الْتُّفُوسِ الشَّرِيرَاتِ

اے پروردگار تو دعوت الحق نی حراسه کر جے ، شرنا لو گونا کید سی حفاظه کر جے ،

Allah, protect Dawat ul Haqq

From the machinations of malevolent spirits

۱۹ وَتِسْعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ بِأَرْضِهَا فَخُذْهُمْ إِلَهِي مُسْرِعاً بِالْجَرِيمَاتِ

نو (۹) مہوتا دشمنو دعوت نی زمین ما فساد کرے چھے اے پروردگار میر سگلانے توشتابی پکر جے ، اہنا جرم نے سزا آپ جے ، [قران مجید ما خدا تعالی فرماوے چھے "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" سورة النمل ۴۸ می آیت (فحوی: شہر ما ۹ دشمن زمین ما فساد کرے چھے ، صلاح نو کام نہیں کرتا]

Nine *dushmans* creating havoc in its lands

Seize them, Allah, and punish them for their crimes.

(Allah Ta'ala says in the Qur'an: "Nine individuals are creating havoc in the land [of Da'wat]; they do not do any good" – Surat al-Naml: 48)

۲۰ وَأَعْطِ لَنَا نَصراً عَزِيزاً إِلَهْنَا وَفَتْحاً مُبِيناً فِي جَمِيعِ الْقَضِيَّاتِ

اے پروردگار تو ہمنے شتابی تمام قضیاؤ ما نصر عزیزانے فتح مبین آپ جے ،

Grant us victory, Allah, *Nasr e Azeez*

And *Fath e Mubeen*, in all our suits and cases

۲۱ وَزِدْ عِزَّةَ الْمُؤْمِنِينَ الْكِرَامِ فِي الْأَنْامِ كَذًا لِلْمُؤْمِنَاتِ الْكَرِيمَاتِ

تو مؤمنین کرام انے مؤمنات کریمات نی لوگوں ادر میان عزت زیادہ کرجے ،

Increase among the people the strength and *izzat*

Of noble mumineen and mumenaat

۲۲ مَتَّاجِرَهُمْ أَرْبِحْ صَنَائِعَهُمْ أَقِمْ وَصُنَّهُمْ جَمِيعًا مِنْ جَمِيعِ الْمُصِيبَاتِ

یہ سگلا ناویساں ما نفع آچے ، کارخانائے بناوی آچے ، انے تمام مصیبتوسی یہ سگلا نی حفاظہ کرجے ،

Make their trading and businesses profitable, establish their factories

Protect them from all kinds of calamities

۲۳ وَبَارِكْ لَنَا فِي رِزْقِنَا وَزُرُوعِنَا وَكَثِّرْ لَنَا مِنْ طَيِّبَاتِ زَكَاةِنَا

ہمارا روزی ما ، ہمارے کھیتی ما تو برکتہ آچے ، موالی طاہرین نا وسیلہ سی طیبات زکیات نی روزی ہمنے گھنی آچے ،

In our sustenance and farming, grant us *barakaat*

Increase our pure and good means, our *tayyebaat*

۲۴ أَصِحِّ لَنَا أَبْدَانَنَا يَا إِلَهَنَا
وَأَخْلَاقَنَا اجْعَلْهَا حَسَنًا قَوِيْمَاتٍ

اے پروردگار ہمارا بدن ما تو صحتہ آجے ، انے ہمارا اخلاق نے تو بہتر کر جے ،
قویمہ کر جے ،

Make our bodies healthy, Allah
Make our characters beautiful and strong

۲۵ وَآخِي إِلَهِي مَنْ لَهُ رَمَقٌ مِّنَ الْ
وَلَايَةِ بَاقٍ مُّثْبِتًا لِلْعَقِيدَاتِ

جر سگلانا اندر ولایتہ نی رمق باقی ہوئی ، انہے تو زندہ کر جے ، عقیدائونے
مضبوط کر جے ،

For any who have a spark of *walayat* remaining in them
Revive them, strengthen their belief

۲۶ وَوَفِّقَهُمْ كَيْمًا يُجِيبُونَ دَاعِيَ الْ
إِمَامِ بِلَا خَوْفٍ وَصِدْقِ الطَّوِيَّاتِ

یہ سگلانے توفیق آجے کہ امام نا داعی نے جواب دے ، بلا خوف ، کوئی سی
بپنے نہیں ، سچا دل سی ،

Give them *tawfeeq* to answer the Imam's Dai
Without fear, with true hearts

۲۷ اَلِهِي اَشْرِكْ فِي دُعَائِي كُلِّهِ
بَنِي الدَّعْوَةِ الغَّرَاءِ اَهْلِ المَزِيَّاتِ

اے پروردگار ماری نیک دعاء ماری دعوة غراء نافرزندونے ، جسرف نا
لوگوچھے ، اهنے توشامل کرچے ،

Allah, make all mumineen partners in my doa
Children of this radiant Dawat, people of distinction

۲۸ اَلِهِي اَطِّلْ عُمُرِي بِخِدْمَةِ طَيْبِ الزَّرِّ
-مَانَ اَفْدِيهِ اُوْدِي النَّصِيحَاتِ

اے پروردگار طيب امام ني خدمه ما تو ماري عمر لمبي کرچے ، ميں يرمولى پر
فداء تها تور هونر ، خدمه كرى نے نصيحة اداء كرتور هونر ،

Allah, grant me a long life in the service of Imam Tayyeb
Fida for him, offering sincere khidmat.

۲۹ ظُهُورَ اِمَامِ العَصْرِ قَدْرَهُ رَبَّنَا
فَرُوْبَيْتُهُ عِيْدًا لِاهْلِ البَصِيْرَاتِ

اے پروردگار امام الزمان نوشتابى ظهور مقدر کرچے ، يرمولى نا ديدار همنے
نصيب کرچے ، جسرف ديدار بصيرة نا لوگو واسطے حقيقى عيد چھے ،

Decree, Allah, Imam uz zamaan's zuhoor
His deedaar is for Mumineen Eid

۳۰. وَصَلِّ عَلَى طَهٍ وَأَطْهَارِ آلِهِ
فَذِكْرُهُمْ لِلْفَوْزِ خَيْرُ الْوَضَائِعِ

طه نبی انے اہنی پاک عترۃ پر توصلوات پرہجے ، یرسگلانی ذکر فونمانے نجات
واسطے خیر وظیفہ چھے ،

Bestow *salawaat* on Taha nabi and his pure progeny
Keeping them close to our hearts is the way to obtain *najaat*

(لیلۃ القدر المبارکۃ ماصادر قمیلا)

اِرشادِ مبین

من الموقف التورانی اشرق الله انوارہ فرمان عالی ہے کہ : جب لوگو قرآن
مجید پڑھی سکتا ہوئے ترسگلا۔ تیج عذر دار بی راؤ کہ جب قرآن
مجید پڑھی سکے نہیں ترسگلا۔ نیچے موجب جنی رات مانتبیج کو

يَا اللهُ

۶۹

يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا فاطمةُ يَا حَسَنُ يَا حُسينُ يَا طيبُ

۱۱

۱۲۸

۱۱۸

۱۳۵

۱۱۰

۹۲

تیج روزی نی تنگی ہوئے تر دور کرو واسطے نیچے موجب تسبیح کرے:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ

يَا رزاقُ

يَا عَفِيُّ

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۳۰

۱۰۶۰

